


حقیقی انجیل کا نمونہ از نیرون مدینہ



بہت سارے لوگ انجیل کی حقیقی روح سے ناواقف ہیں۔ وہ انجیل کے دل کے حقیقی خلاصے کی سائنس کو نہیں جانتے جس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ انجیل حقیقت میں کیا ہے اور کونسی بات انہیں اس قابل بناتی ہے کہ وہ گناہ سے بچیں لیکن پولوس رسول بتاتا ہے کہ وہ ”۔۔۔ کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے نجات کے لیے خُدا کی قُدرت ہے۔۔۔“ رومیوں ۱:۱۶؛ اور کونسی چیز اُسے ’قُدرت‘ عطا کرتی ہے تاکہ لوگ نجات پائیں (یونانی لفظ ”دونامس“ کا مطلب ہے ”قُدرت“؟ وہ بتاتا ہے کہ خُدا کی راستبازی جس کا ذکر انجیل میں ہے اور جو ایمان سے پیدا ہوتی ہے وہ انجیل کے کام میں گناہگاروں کو بچاتی ہے۔ (رومیوں ۱: ۱۴)

تاہم بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ”خُدا کی راستبازی“ محض شریعت کے دس احکامات ہیں یہ سچ ہے کہ خُدا کی راستبازی خُدا کے احکامات ہیں، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ”تیرے تمام قوانین راست ہیں“ زبور

۱۱۹ ، ۱۵۲ ، اور پولوس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ ” --- تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو --- “ رومیوں ۸ : ۳ ۔ لیکن ہمیں ایک دوسری خُدا کی راستبازی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جو کہ خُدا کی شریعت کے بغیر ہے یا شریعت کے کاموں سے ” الگ ہے “ --- کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اُس کے حضور راستباز نہیں ٹھہرے گا اِس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے ۔ مگر اب شریعت کے بغیر خُدا کی ایک راستبازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے “ ۔ رومیوں ۳ : ۲۰ ، ۲۱ ۔

ان آیات میں پولوس رسول جس بات کی وضاحت کر چکا ہے کہ ہمیں شریعت کے دس احکام کا علم اِس لیے دیا گیا ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ گناہ کیا ہے ، خُدا کی راستبازی ، خُدا کی شریعت ، یا دس احکامات کے اعمال سے مختلف ہے۔

خُدا کی راستبازی مصدقہ ہے اور موسیٰ کی تحریروں (شریعت) میں ملتی ہے اور نبیوں کی تحریروں میں یہاں ” خُدا کی راستبازی “ کی ایک خاص اور واضح پیش کاری نظر آتی ہے ۔ ” دیکھ وہ دن آتے ہیں خُداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کرونگا اور اُس کی بادشاہی مُلک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہو گی۔ اُس کے ایام میں یہوداہ نجات پائیگا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کریگا اور اُس کا نام یہ رکھا جائیگا ، ا خُداوند ہماری صداقت “ یرمیاہ ۲۳ : ۵ ۔ ۶ ۔

یہ حوالہ واضح طور پہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی معنوں میں یہواہ (جس کو یہواہ کہتے ہیں) ، ہماری راستبازی ہے۔ خُدا اپنے کاموں کی شریعت نہیں ہے ، اِس طرح خُدا کی راستبازی شریعت کے کاموں سے مختلف ہے ، اور یہ خود خُدا ہے پس یہواہ خُود ہماری راستبازی ہے۔ (دیکھیں : زبور ۴ : ۱۴ ؛ زبور ۱۳۳ : ۱۱)

اب خُدا کی راستبازی سے متعلق جو کہ خُود خُدا ہے ، ہمیں مزید بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے نجات کے کاموں کا منصوبہ کام کرتا ہے : ” یعنی خُدا کی وہ راستبازی جو یسوع پر (یونانی متن کہتا ہے ” ایس “ جس کا مطلب ہے ” میں “) ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ کچھ فرق نہیں۔ “ رومیوں ۳ : ۲۲

تو ہم یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے خُدا کی راستبازی، خُود خُدا ہے ، جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم میں سکونت کرتا ہے۔ خُدا کی راستبازی ، خُدا خود زبور ۳۰ : ۱۰ کے مطابق ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے یہ بالکل اُسی طرح ہے جیسے لکھا ہے کہ خُدا روح القدس کے وسیلے ہم میں سکونت کرتا ہے۔ ۱۔ یوحنا ۳ : ۱۲ ۔ ۱۳ یہ اُسی وقت ہوتا ہے کہ خُدا بطور خُدا کی راستبازی ہم میں سکونت کرے جب ہم ایمان سے بچائے جاتے ہیں اور اُس وقت ہم خُدا کی شریعت یا شریعت کی راستبازی کے طور پر تعمیر ہوتے ہیں جیسا کہ رومیوں ۳ : ۲۸ ، ۳۰ ، ۳۱ اور رومیوں ۸ : ۳ میں لکھا ہے۔

اور اِس طرح سے حقیقت میں یا انجیل حقیقی مرکزی پیغام کے مطابق حقیقی انجیل یہ ہے کہ وہ ہمیں بچاتا ہے : خُدا کی راستبازی ، یعنی خُدا خود ایمان کے ذریعے ہمارے دلوں میں آتا ہے ، اِس طرح سے یسوع کا ایمان اور خُدا خود ہمیں قائل کرتا ہے کہ ہم راستبازی کے کام کریں ۱۔ یوحنا ۳ : ۲۳ کا پیغام یہ ہے اور یہی ہے جس سے ہم خُدا کو حقیقی جلال دے سکتے ہیں ۔ جب ہمارے اعمال خود خُدا (خُدا کی راستبازی) کے وسیلے سے ہمیں قائل کرتے ہیں جو کہ ہمارے اندر سکونت کرتا ہے پھر صرف خُدا ہی ہم میں جلال پائے گا اِس طرح سے یہی انجیل کا حقیقی پیغام ہے جو حکمت انسان پا لیتا ہے اُس کے پاس حقیقی انجیل ہے ۔ آمین